



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 2023/12/3

گورنر HOCHUL کی جانب سے ریاست نیو یارک میں مارچ 2023 کو بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کا مہینہ قرار دہنے کا اعلامیہ جاری

بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے کے اعتراف کے طور پر 12 مارچ کو ریاست نیویارک کے تاریخی مقامات پر نیلے رنگ سے چراغاں

اعلامیہ یہاں پڑھیں

گورنر Kathy Hochul کی جانب سے آج کے دن جاری کردہ اعلامیہ سے ریاست نیو یارک میں مارچ 2023 کو بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کا مہینہ قرار دیا گیا تاکہ بڑی آنت کے کینسر کی بڑھتی ہوئی شرح سے متعلق بیداری میں اضافہ کیا جائے۔ گورنر کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے کے اعتراف میں ریاست نیو یارک کے تاریخی مقامات کو آج رات یعنی 12 مارچ کو نیلے رنگ کی روشنی سے منور کیا جائے گا۔

"ہم آج کے دن مارچ 2023 کو بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے کے طور پر تسلیم کرنے اور ریاست نیو یارک کے تاریخی مقامات کو نیلے رنگ سے منور کرنے کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اسکریننگ اور روک تھام کے اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے جو کسی فرد کے بڑی آنت کے کینسر میں مبتلا ہونے کے خطرے کو کم کرتے ہیں،" گورنر Hochul نے کہا۔ "میں نیویارک کے باشندوں پر زور دیتی ہوں کہ وہ زندگی بچانے والی ان اسکریننگ کے بارے میں اپنے فراہم کنندگان کے ساتھ بات چیت کریں اور جاری بات چیت میں شامل ہوں جو بڑی آنت کے کینسر کے بارے میں بیداری پیدا کرتی ہے۔"

بڑی آنت کے کینسر سے متعلق آگاہی کے مہینے کے اعتراف میں درج ذیل تاریخی مقامات پر نیلے رنگ سے چراغاں کیا جائے گا:

- ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر
- گورنر ماریو ایم کیومو برج
- کوزی اوشکو برج
- دی ایچ کارل مک کال SUNY بلڈنگ
- سٹیٹ ایجوکیشن بلڈنگ
- الفریڈ ای سمتھ سٹیٹ آفس بلڈنگ
- ایمپائر سٹیٹ پلازہ
- سٹیٹ فیئر گراؤنڈز - مرکزی گیٹ اور ایکسپو سینٹر
- نیاگرا فالز
- "فرینکلن ڈی روزویلٹ" مڈ-ہڈسن برج
- گرینڈ سینٹرل ٹرمینل - پرشنگ سکوائر واپاڈکٹ
- البانی انٹرنیشنل ایئرپورٹ گیٹ وے

- ایری کینال پر فیئرپورٹ لفٹ پل

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

[ان سبسکرائب کریں](#)